



instruction manual - Joolz side pack
Gebrauchsanweisung - Joolz Seitentasche
manual de instrucciones - Joolz bolsa lateral
manuel d'instructions - Joolz sacoche latérale



Joolz Geo¹
Joolz Geo²



WARNING

en **WARNING:** Maximum weight for the bag when used in combination with the chassis is 2 kg/4.5 lbs.

de **WARNUNG:** Das Höchstgewicht der Tasche bei Verwendung in Kombination mit dem Rahmen ist 2 kg.

nl **WAARSCHUWING:** Het maximale gewicht dat de tas samen met het frame kan houden is 2 kg.

fr **AVERTISSEMENT:** Poids maximal du sac utilisé en conjonction avec le châssis: 2 kg.

es **ADVERTENCIA:** El peso máximo para la bolsa cuando se usa en combinación con el chasis es de 2 kg/4.5 lbs.

pt **AVISO:** O peso máximo do saco quando utilizado em conjunto com o chassis é de 2 kg/4.5 lbs.

it **AVVERTENZA:** Il peso massimo per la borsa quando usata in combinazione con il telaio è di 2 kg.

sv **VARNING:** Högsta tillåtna vikt för väskan när den används i kombination med chassit är 2 kg.

no **ADVARSEL:** Maksimal vekt for posen når den brukes i kombinasjon med understellet er 2 kg.

fi **VAROITUS:** Ensimmäispaino pussille käytettynä yhdessä rungon kanssa on 2 kg.

da **ADVARSEL:** Maksimal vægt for tasken, når den bruges i kombination med stellet, er 2 kg.

ru **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ёмкость для сумки.
Ёмкость для сумки при использовании в сочетании с рамой - 2 кг.

pl **OSTRZEŻENIE:** Maksymalny ciężar torby używanej w połączeniu ze stelażem wynosi 2 kg.

uk **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** Ёмкість для сумки при використанні з рамою становить 2 кг.

ee **HOIATUS:** Kotti maksimaalne kaal raamil kasutamisel on 2 kg.

lv **BRĪDINĀJUMS:** Somas maksimālais svars, izmantojot kopā ar šasiju, ir 2 kg.

lt **ĮSPĖJIMAS:** Maksimalus krepšelio svoris, kai jis naudojamas kartu su važiuokle, yra 2 kg.

sl **OPOZORILO:** Največja teža za torbo pri uporabi v kombinaciji s podvozjem je 2 kg.

hr **PAŽNJA:** Maksimalna težina torbe pri upotrebi u kombinaciji sa šasijom jest 2 kg.

cs **VAROVÁNÍ:** Maximální nosnost tašky při použití v kombinaci s kroužky jsou 2 kg.

bg **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ёмкостта на чантата, когато ле ежолзва в колелата е 2 кг.

ro **AVERTISMENT:** Greutatea maximă pentru geantă când este utilizată în combinație cu cadrul este de 2 kg/4,5 lbs.

sr **UPOZORENJE:** Maksimalna težina za torbu kada se koristi u kombinaciji sa konstrukcijom je 2 kg.

hu **FIGYELMEZTETÉS:** Vázsal való használat esetén a táska maximális súlya 2 kg.

sk **VAROVANIE:** Maximálna hmotnosť batohu pri použití v kombinácii s podvozkom je 2 kg.

gr **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Το μέγιστο βάρος της τσάντας όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το σκελετό είναι 2 κιλά

ar **تحذير:** وهو لكيفية الجمع ما ادخلت سالات الدخبة في حبل لى صقأال نزولاً
1.5 كجم / 4.5 كجم

za **WAARSKUWINGS:** Maksimum gewig vir die sak wanneer dit in kombinasie met die onderstel gebruik word is 2 kg / 4,5 lbs.

zh **警告:** 警告 配合底座使用时此包的最大承重为 2 公斤。

tw **警告:** 警告 請勿配合提籃使用。

jp **警告:** 警告 シヤーシと組み合わせて使用する場合のバッグの最大重量 は2 Kgです。

ko **경고:** 경고 새시와 함께 사용할 경우 이 가방의 최대 하중은 2kg 입니다.

hi **चेतावनी:** चेसिस के साथ उपयोग करते समय इस बैग का अधिकतम वजन 2 किलो है।

th **คำเตือน:** น้ำหนักสูงสุดสำหรับกระเป๋าเมื่อใช้งานร่วมกับโครงรถ คือ 2 กก.

ms **AMARAN:** Berat maksimum beg apabila digunakan bersama-sama dengan chasis adalah 2 kg.

id **PERINGATAN:** Berat maksimal tas saat digunakan dengan chasis adalah 2 kg.

ir **هشدار:** بیشترین وزن مجاز برای استفاده از این کوله‌پشتی در کنار چاسیس ۲ کیلوگرم است.